



طوفانوں اور سیلاب کے لیے تیار رہیں



اپنے لیے خطرے کا علم رکھیں۔
اپنے گھر کو تیار کریں۔
جہاں ممکن ہو، خطرہ کم کریں۔
دوسروں سے تعلق میں رہیں۔
باخبر رہیں۔




ایسے قدم اٹھائیں جن سے آپ
محفوظ رہ سکیں۔

سیلاب/طوفان آنے سے پہلے


اپنے لیے خطرے کا علم رکھیں۔

طوفان کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور سیلاب کا سبب بن سکتے ہیں۔



طوفان درختوں، عمارتوں اور بجلی
کی تاروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

سیلابی پانی تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔
اگر طوفان یا سیلاب آپ کے گھر کو نقصان نہ پہنچائیں تو بھی آپ ان سہولتوں سے
محروم ہو سکتے ہیں



- بجلی
- فون اور انٹرنیٹ کنیکشن
- سڑک تک پہنچنے کا راستہ

ریڈیو یا انٹرنیٹ پر وارننگز اور موسم کی
پیشگوئیاں **چیک کریں**۔

اپنی لوکل کاؤنسل سے **پوچھیں** کہ کیا آپ
کا گھر یا سڑک تک جانے والا راستہ سیلاب
کا شکار ہو سکتا ہے۔

اپنے گھر کو تیار کریں۔

اپنا ایمرجنسی پلان بنائیں جسے آپ کے گھر کے ہر فرد سمجھتا ہو۔

مدد کے لیے چیک لسٹس موجود ہیں - ses.tas.gov.au/prepare دیکھیں یا redcross.org.au/emergencies

ایمرجنسی کٹ تیار کریں۔

وقت آنے پر یہ چیزیں پیک کریں


گرم کپڑے،
مضبوط
جوتے یا بوٹ



ادویات، عینکیں اور
دوسری ضروری چیزیں



پالتو جانوروں کا کھانا
اور انکی ضرورت کی
دوسری چیزیں



موبائل فون اور
فون چارجر



فوٹوز اور خاص
یادگاریں



اہم دستاویزات، مثال
کے طور پر،
• انشورنس کے کاغذات
• پاسپورٹس
• پیدائش کے سرٹیفکیٹس
• پیسے



یہ چیزیں ابھی پیک کریں

بیٹری سے چلنے والا
ریڈیو اور ٹارچ،
اضافی بیٹریاں



اہم معلومات،
جیسے آپ کا
ایمرجنسی پلان



ربڑ یا مضبوط
چمڑے کے دستانے



فرسٹ ایڈ کٹ




خوراک اور پانی



جہاں ممکن ہو، خطرہ کم کریں۔



اپنے گٹرز اور نالیوں کو صاف رکھیں۔



ایسے درخت کٹوا دیں جو آپ کے گھر پر گر سکتے ہیں۔



مکان یا کوئی اور پراپرٹی خریدتے یا ڈیولپ کرتے ہوئے سیلاب اور طوفانوں کو ذہن میں رکھیں۔



چیک کریں کہ آپ کے پڑوسی خطرات سے آگاہ ہیں اور محفوظ ہیں۔

اپنے پڑوسیوں سے تعلق بنائیں اور اپنی کمیونٹی کے معاملات میں شریک ہوں۔

سیلاب/طوفان کے دوران

ایسے قدم اٹھائیں جن سے آپ محفوظ رہ سکیں۔



چیک کریں کہ آپ کی ایمرجنسی کٹ تیار ہے۔



جو چیزیں تیز ہوا سے اڑ سکتی ہیں یا پانی میں بہ سکتی ہیں، انہیں باندھ دیں یا کہیں سنبھال کر رکھ دیں۔




رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی خبر لیں۔



بچوں اور پالتو جانوروں کا خیال رکھیں۔



بجلی، پانی یا انٹرنیٹ بند ہو جانے کے امکان کے لیے تیار رہیں۔



گھر کے اندر رہیں۔ طوفانوں کے دوران کھڑکیوں سے دور رہیں اور جہاں ممکن ہو، بجلی کی چیزوں کے پلگ نکال دیں۔



اگر آپ علاقے سے نکلنے کا انتخاب کریں تو جلدی نکل جائیں۔

تازہ معلومات حاصل کرتے رہیں۔

اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے آگاہ رہیں۔ پیشگوئیاں، مشاہدات اور وارننگز باقاعدگی سے چیک کریں۔



bom.gov.au

ریڈیو اسٹیشن ABC آپ کا مقامی
abc.net.au/hobart
abc.net.au/northtas

tasalert.com

اطلاع (پیلا لیول)

ایک واقعہ شروع ہو گیا ہے۔ فوری خطرہ نہیں ہے۔ صورتحال سے باخبر رہیں کیونکہ حالات بدل سکتے ہیں۔



نظر رکھیں اور قدم اٹھائیں (اورنج لیول)

خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حالات بدل رہے ہیں اور آپ کو ابھی سے اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے اقدامات شروع کرنے ہوں گے۔



ایمرجنسی وارننگ (سرخ لیول)

ایمرجنسی وارننگ سب سے اونچی سطح کی وارننگ ہے۔ آپ خطرے میں ہو سکتے ہیں اور آپ کا فوری قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اب تاخیر آپ کی جان کو خطرے میں ڈال دے گی۔



واقعہ (سفید لیول)

انسٹیڈنٹ یعنی واقعے سے مراد سیلاب یا طوفان کا آغاز ہے جس کے بعد ایمرجنسی وارننگ کا درجہ آتا ہے۔ جیسے ہی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، TasALERT بنیادی معلومات شائع کرتا ہے جن میں واقعے کی قسم اور مقام شامل ہے۔



سیلابی پانی سے دور رہیں۔
سیلابی پانی خطرناک ہوتا ہے۔

اگر آپ اپنا علاقہ چھوڑیں

SES اور تسمانیہ پولیس کی ہدایات پر عمل کریں۔



اپنے پالتو جانور اور
ایمرجنسی کٹ ساتھ
لے کر جائیں۔




دوستوں یا خاندان کے
پاس کسی محفوظ
جگہ یا علاقہ چھوڑنے
والوں کے لیے بنائے گئے
مرکز میں جائیں۔



نقصان سے بچاؤ میں مدد کریں۔

پلاسٹک بیگز میں
ریت یا مٹی بھر کر
ٹائلٹس میں اور
باتھ ٹب اور سنک
کے پلگ بولز پر رکھیں۔



اپنے گھر میں
بجلی، گیس اور
پانی کو مین لائن
سے بند کر دیں۔



گھر پر رہیں، سوائے اس کے کہ گھر میں رہنا غیر محفوظ ہو جائے۔

باہر گھومنے نہ جائیں۔ اگر آپ کو باہر جانا ہو تو خطرات سے ہوشیار رہیں۔



سیلاب یا طوفان کے بعد

- تازہ اطلاعات سنتے رہیں اور واقعے کے بعد معلومات اور دستیاب مدد کے لیے www.tasalert.com چیک کریں۔
- اگر آپ نے اپنا گھر چھوڑا تھا تو تب تک واپس نہ آئیں جب تک SES یا تسمانیہ پولیس آپ کو نہ بتائیں کہ واپس جانا محفوظ ہے۔
- سڑکوں پر ملیے یا ٹوٹی ہوئی سڑکوں جیسے خطرات سے ہوشیار رہیں۔

اگر طوفان یا سیلاب نے آپ کے گھر کو نقصان پہنچایا ہے



ٹارچ استعمال کریں، سیلاب زدہ عمارتوں کے اندر کبھی ماچس یا موم بتیاں نہ جلائیں۔



جب تک کوئی لائسنس یافتہ الیکٹریشن یا گیس فٹر ٹیسٹنگ نہ کر لے، بجلی اور گیس آن نہ کریں۔



مضبوط بوٹ، دستانے اور حفاظتی کپڑے پہنیں۔



چیک کریں کہ کیا آپ کے پڑوسی ٹھیک ہیں۔



تمام نقصانات کی فوٹوز لیں اور اپنی انشورنس کمپنی سے رابطہ کریں۔



پینے کے پانی کو ابالیں جب تک کہ آپ کو نہ بتایا جائے کہ نل کا پانی پھر محفوظ ہو چکا ہے۔



بچوں کی نگرانی کریں۔



اگر آپ کو کہیں اور رہنا پڑے تو اپنی ایمرجنسی کٹ اور پالتو جانور ساتھ لے جائیں۔



storm and
flood ready

مزید معلومات

طوفانوں اور سیلاب کی تیاری
ses.tas.gov.au

موجودہ وارننگز
www.tasalert.com

ایمرجنسی براڈکاسٹرز
آپ کا مقامی ABC ریڈیو اسٹیشن

جنوبی تسمانیہ
abc.net.au/hobart
936AM

شمالی تسمانیہ
abc.net.au/northtas
91.7FM (Launceston)
102.5FM (Burnie)
100.5FM (Devonport)
90.5FM (Queenstown)
88.5FM (King Island)

TAS SES سوشل میڈیا
facebook.com/sestasmania
twitter.com/sestasmania
instagram.com/tasstateemergencyservice

سیلاب اور طوفان میں ہنگامی
مدد کے لیے کال کریں

132 500

زندگی کے لیے خطرناک
ایمرجنسی میں ٹریپل زیرو
000
پر کال کریں

ورژن 2، مارچ 2024

ISBN 978-0-6454603-3-9